

Official Spokesperson's response to media queries regarding the situation in Afghanistan

August 16, 2021

افغانستان کے حالات کے حوالے سے میڈیا کے سوالات پر سرکاری ترجمان کا جواب

16 اگست، 2021

افغانستان کے حالات کے حوالے سے میڈیا کے سوالات کے جواب میں، سرکاری ترجمان جناب ارندم باغچی نے کہا،

"کابل میں سیکورٹی کی صورتحال پچھلے کچھ دنوں میں نمایاں طور پر خراب ہوئی ہے۔ یہ صورتحال ہمارے ابھی بات کرتے ہوئے بھی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔"

2- حکومت ہند افغانستان میں تمام پیش رفتوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم اس ملک میں ہندوستانی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے وقتاً فوقتاً مشورے جاری کرتے رہے ہیں، جس میں ان کی فوری طور پر ہندوستان واپسی کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ہم نے ایمرجنسی رابطہ نمبرز کو بھی لوگوں کو فراہم کیا ہے، اور کمیونٹی ممبروں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں اب بھی کچھ ہندوستانی شہری ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے رابطے میں ہیں۔

3- ہم افغان سکھ اور ہندو برادریوں کے نمائندوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ہم ان لوگوں کی بھارت واپسی کی سہولت فراہم کریں گے جو افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بہت سے ایسے افغان بھی ہیں جو ہماری باہمی ترقیاتی، تعلیمی اور عوام سے عوام کے مابین تعلقات کے فروغ میں ہمارے شراکت دار رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔

4- کابل ایئرپورٹ سے تجارتی آپریشن آج معطل کر دیا گیا ہے۔ اس نے ہماری وطن واپسی کی کوششوں کو روکنے پر مجبور کیا ہے۔ ہم اس عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پروازوں کی بحالی کے منتظر ہیں۔

5. افغانستان كے حالات كے مسلسل طور پر اعلیٰ سطح پر نگرانی كی جا رہی ہے۔ حكومت ہندوستانی شہریوں كی حفاظت اور افغانستان میں ہمارے مفادات كو یقینی بنانے كے لیے تمام اقدامات كرے گی۔

نئی دہلی

16 اگست، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release